



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


د (رجسٹرڈ)

المُنِير مَسْرُكز تَعْلِيم و تَرْبِيَة

بلاک ”اٹیج“ شمالی ناظم آباد، کراچی، پاکستان

0331-2607204





الحج



مرتب: مفتی نذیر احمد کراچی
استاذ: جامعہ معینہ معہد التعاون الاسلامیہ (اردو)
فاضل: جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، کراچی





اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے کا شرف بہت بہت مبارک ہو





فہم حج و عمرہ کورس

✓ پہلی کلاس: روح حج و عمرہ

✓ دوسری کلاس: عمرہ

✓ تیسری کلاس: حج

✓ چوتھی کلاس: زیارات (مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ)





ترہتی کلاسوں کی اہمیت

- حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اور مشقت والا سفر ہے، بانی کعبہ ابراہیمؑ نے باقاعدہ حج کے مناسک سیکھنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔

وَأَرْنَا مَنْ سَكَنَّا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرة: 128)

”اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ بیشک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے کا خوگر (اور) بڑی رحمت کا مالک ہے۔“

- ترہتی نشستوں کے اہتمام سے یہ عظیم فریضہ بغیر کوتاہی کے کامل طریقہ سے ادا ہو سکے گا
- مشقت والا سفر باآسانی ہو سکے گا۔

• قبولیت اور آسانی ہی کی دعا حج و عمرہ میں سکھائی گئی ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي۔





فہم حج و عمرہ کورس

پہلی کلاس: روح حج و عمرہ





پہلی کلاس: روح حج و عمرہ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (بقرہ: 196)

حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو

دو مطالبے

✓ اخلاص (حج و عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو)

✓ اتمام (حج و عمرہ کامل ہو، ناقص نہ ہو)

اب اس کورس میں یہی دو بنیادی چیزیں سیکھیں گے





پہلا مطالبہ: اخلاص (حج و عمرہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو)

□ ابن العربی فرماتے ہیں: اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ حج و عمرہ کا سفر میلا ٹھیلا سمجھ کر تفریحی سفر نہ ہو، فخر نام و نمود کے لیے نہ ہو، تجارت کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ (احکام القرآن، ابن العربی، تفسیر ماجدی، 371/2)

□ لہذا اپنی نیتوں کو درست فرمائیں

- ✓ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی
- ✓ تعلق مع اللہ میں اضافہ
- ✓ حج / عمرہ کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت ہو
- ✓ سیر و سیاحت، تفریح، آب و ہوا کی تبدیلی (اور حاجی صاحب کہلانے) کی نیت نہ ہو





فضائلِ حج و عمرہ

✓ حاجی پیدائشی بچہ کی طرح

✓ فقر و فاقہ ختم، گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف

✓ دربارِ خدا کا وفد

✓ حج مبرور افضل عمل / اس کا بدلہ جنت ہے





ہر قدم پر حرم کی 700 نیکیاں ✓

ایک کے بدلہ 700 کا اجر ✓

ہر حاجی کے لیے 400 کا کوٹا ✓

حاجی دربارِ الہی میں بہترین سفارشی ✓

حاجی کے ساتھ مخلوق کا تلبیہ ✓





طواف کرنے والوں پر 60 رحمتیں / ایک جان آزاد کرنے کا ثواب ✓

حجرِ اسود کا استلام خطاؤں کو مٹاتا ہے / گواہی دیتا ہے ✓

عرفہ کا دن اور شیطان کی رسوائی / فرشتوں سے فخر ✓

ہر رمی پر کبیرہ گناہ کی معافی ✓

ہر بال کے بدلہ ایک نیکی / حضور ﷺ کی دعائیں ✓

ایک جامع حدیث ✓





دوسرا مطالبہ: اتمام (حج و عمرہ کامل ہو، ناقص نہ ہو)

✓ اتمام کی حقیقت

□ یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، اصول، ضابطے، اعمال و آداب کا خیال

رکھتے ہوئے تمام ممنوع کاموں سے بچتے ہوئے حج و عمرہ کرو۔ دورانِ حج و عمرہ ایسی

بات یا کام نہ ہو جو اس عبادت کے شایانِ شان نہ ہو۔

(تفسیر کبیر، ابن کثیر، مدارک، قرطبی، ماجدی، بقرة: 196)





اتمام کا طریقہ ✓

اتمام کے لیے یہ جاننا ضروری ہے

حج و عمرہ

آداب حج و عمرہ

حج و عمرہ کرنے کے بعد کرنے نہ
کرنے کے 6 کام

دوران حج و عمرہ کرنے نہ
کرنے کے 7 کام

حج و عمرہ کرنے سے پہلے کے
7 آداب





حج و عمرہ کرنے سے پہلے کے 7 آداب





حج عمرہ کرنے سے پہلے کے 7 آداب

(1) ہر کام میں، ہر بات میں رجوع الی اللہ کا اہتمام

1. استخارہ

2. استعانت / استعاذہ

3. توکل

✓ جو کام کریں (کسی بھی چیز کا سبب اختیار کریں) کم از کم ایک ہی مرتبہ یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ اے اللہ یہ کام آپ کے اختیار میں ہے اگر آپ چاہیں گے تو ہو گا ورنہ نہیں ہو گا۔

✓ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیں: **حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** - (ابوداؤد: 5081)

(2) مشورہ


(3) اچھے رفیق سفر کا انتخاب



حج عمرہ کرنے سے پہلے کے 7 آداب

(4) سفری ضروریات کا بندوبست

ان چیزوں کا اہتمام کریں



نمونہ ؟؟؟؟





ضروریات سفر کا پرچہ المنیر مسائل حج و عمرہ واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیا جائے گا۔ ان شاء اللہ





حج عمرہ کرنے سے پہلے کے 7 آداب

(5) تعلیم و تعلم

1. مسائل باقاعدہ تربیتی کلاسوں کے ذریعے سیکھیں اور دوران سفر بھی سیکھتے رہیں ریکارڈ شدہ تربیتی کلاسیں بار بار سنتے رہیں اور آپس میں مذاکرہ کریں۔
2. معتبر کتابوں کا بار بار مطالعہ کریں، سمجھیں، نوٹ کریں، پوچھیں۔
3. سفر میں کتابیں ساتھ رکھیں ہر عمل سے پہلے کچھ وقت نکال کر اس کا طریقہ ایک مرتبہ دہرائیں۔
4. مستند مفتی حضرات کے فون نمبر بھی ساتھ رکھیں
5. المُنیر مسائل حج و عمرہ واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ اس کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں:

03312607204

مسائل کے ساتھ آداب، ذوق و شوق بھی سیکھیں



حج عمرہ کرنے سے پہلے کے 7 آداب

(6) توبہ

✓ جن گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں فوراً چھوڑ دیں۔

✓ گزشتہ پرندامت، افسوس ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ، پکا عزم ہو بہتر ہے کہ غسل کر کے

دو رکعت صلوٰۃ التوبہ بھی پڑھیں۔ (غنیۃ: 34)

✓ حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں۔ (غنیۃ: 34 کو بیٹیہ: توبہ)

(7) عبادت کا مزاج بنا کر جائیں





دوران حج و عمرہ کرنے نہ کرنے کے کام





(1) سفر حج میں کثرت سے ذکر، دعا و مناجات کریں

(2) سفر حج میں کثرت سے تلبیہ پڑھیں

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ



3. سفر حج میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں

✓ کھانا کھلائیں

✓ نرم گفتگو کریں

✓ تواضع و عاجزی اختیار کریں

✓ خادم بن کر رہیں

✓ امیر کی اطاعت، ساتھیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، فتنہ و فساد سے بچیں



- (4) سفر حج میں تمام اعمال سکون و وقار سے کریں، جلد بازی سے اجتناب کریں
- (5) سفر حج میں حریم، مقامات مقدسہ اور تمام شعائر کی تعظیم و ادب کا اہتمام کریں
- ✓ حریم شریفین کے خصوصی آداب و احکام

- (1) حرم کی تعظیم ہی میں امت کی حفاظت ہے (2) حرم میں گناہ کے ارادہ پر بھی سزا ہے
- (3) حرم کے گناہوں کا وبال بھی دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے (4) حدود حرم میں ہر شخص کو داخلہ کی / ٹھہرنے کی اجازت نہیں
- (5) حدود حرم میں بغیر یونیفارم (احرام) کے داخلہ کی اجازت نہیں جو آئے نہادھو کر صاف ہو کر آئے
- (6) حدود حرم میں (یعنی شاہی محل کے آس پاس) کسی کو شکار کی، جنگ و قتال کی، درخت کاٹنے، درختوں کے پتے جھاڑنے کی اجازت نہیں۔
- (7) جو حرم کے حقوق و آداب بجا نہ لاسکے اس کے لیے وہاں رہائش اختیار کرنا مکروہ ہے۔
- (8) مدینہ منورہ کے حدود میں بھی شکار کرنا، جنگ و قتال کرنا، درختوں کو کاٹنا، پتوں کو جھاڑنا خلاف ادب ہے اگرچہ حرم کی طرح حرام نہیں



✓ سفرِ حرمین اور کوتاہیاں

(1) گناہوں سے پرہیز نہ کرنا

- (1) نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، برے خیالات جذبات میں مشغول ہو جانا
- (2) نامحرموں سے میل جول، خلوت و تنہائی، اختلاط، مستی مذاق کرنا، موویز، تصویریں بنانا، دیکھنا، عورتوں کا پردہ کا اہتمام نہ کرنا
- (3) فرائض و واجبات کو ترک کر دینا، نمازیں چھوڑنا، حج و عمرہ کے اعمال میں فرائض و واجبات ممنوعات کا خیال نہ رکھنا
- (4) بحث و مباحثہ، شکوے شکایتیں (خاص کر اہل حرمین کی) لڑائی جھگڑے کرنا، غیبتیں کرنا، غیبتیں سننا، اپنے عمل، رویوں، سوء معاشرت سے لوگوں کو اذیت و تکلیف پہنچانا
- (5) کثرتِ عبادت کی وجہ سے خود پسندی، عجب میں مبتلا ہو جانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا
- (6) مسجد حرام، مسجد نبوی، روضہ اقدس کے آداب کا خیال نہ کرنا، چیخ و پکار، دھکم پیل، بھاگنا دوڑنا، ہنسی مذاق، فضول گپیں، بحث و مباحثہ کرنا، بجائے اعمال کے تصویریں، موویز بنانے میں لگنا دوسروں کو لگانا، کعبہ کی طرف پیر پھیلانا



(2) عبادات اور اعمال کے بجائے دیگر چیزوں میں مشغول ہونا

- (1) حالاتِ حاضرہ ملکی یا بین الاقوامی خبریں دیکھنا، سننا، پوچھنا، تبصرے کرنا
- (2) فضول و بیکار بحث و مباحثہ، دنیاوی گفتگو میں لگنا
- (3) بجائے حرمین میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے ہوٹلوں، بازاروں، مارکیٹوں میں بے کار گھومنا یا اپنے ہوٹل میں پڑے رہنا، مردوں کا نمازوں کو چھوڑ دینا
- (4) اپنے یا رشتہ داروں کے لیے غیر ضروری خریداری کرنا جبکہ حرمین شریفین کی سوغات صرف کھجور، زمزم ہے

(3) عبادات میں غفلت، سستی و لاپرواہی کرنا

- (1) عمرہ و طواف، ذکر و تلاوت، دعا و درود، نوافل، جماعت کی نماز، تکبیر اولیٰ وغیرہ کا اہتمام نہ کرنا کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا
- (2) ان اعمال کو یکسوئی و دھیان، شوق و رغبت، خشوع و خضوع سے نہ کرنا، سنت طریقوں کا اہتمام نہ کرنا، فضائل و ثواب کو سامنے نہ رکھنا، جلد بازی کرنا، بوجھ سمجھ کر کرنا، دوسروں کو بتانے کے لیے تعداد بڑھانا





6. سفر حج و عمرہ میں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کریں

✓ طریقہ

- ہر عمل سے پہلے کچھ وقت نکال کر اہتمام سے اس عمل کا طریقہ، سنتیں کتاب سے دیکھ لیں، آپس میں مذاکرہ کر لیں۔ مثلاً 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں بھی کتاب سے اس کا طریقہ دیکھ لیں، اسی طرح ہر عمل سے پہلے کر لیں۔
- حج و عمرہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی سنتوں کو جاننے کے لیے ”فہم سنت کورس“ اور ”ایک مسلمان کیسے زندگی گزارے“ کا مطالعہ کرتے رہیں اور مسنون دن گزاریں، سفر حج و عمرہ کے یہ ایام اگر مسنون طریقے سے گزار دیے تو ان شاء اللہ پوری زندگی سنور جائے گی۔



7. سفر حج و عمرہ میں آسانی اور سہولت کے لیے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں

1. یہ سوچ کر جائیں:

• حج نام ہی تعب و تکلیف، مشقت اور محنت برداشت کرنے کا ہے جیسا کہ:

مختلف مواقع میں غیر معمولی تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جیسے: فلائٹ میں، جدہ ایئرپورٹ پر، ہوٹل کے کمرے خالی ہونے میں، بسوں کے لیے دیئے گئے مقررہ وقت میں، سڑکوں پر دوران سفر رش کی وجہ سے یا راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے یا گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے۔

اسی طرح بسوں، کمروں کا اے سی خراب ہو سکتا ہے۔

کوئی بیماری، چھوٹی موٹی پریشانی پیش آسکتی ہے۔

کھانے پینے، سونے میں لوگوں کی طرف سے کوئی بات خلاف مزاج پیش آسکتی ہے۔

لہذا صبر و شکر کے احساس کو ساتھ لے کر جائیں جبکہ غصہ، جھنجھلاہٹ، جلد بازی، بے صبری، آرام اور گھر کی فکر یہی چھوڑ کر جائیں۔





7. سفر حج و عمرہ میں آسانی اور سہولت کے لیے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں

1. یہ سوچ کر جائیں:

- ان شاء اللہ حج و عمرہ کی یہ عبادات، دعائیں اور محنتیں پوری زندگی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گی۔
- حج و عمرہ کے دوران بظاہر جتنی بھی تکالیف اور دشواریاں اور مشکلات اور جسمانی کلفت مشقت پیش آتی ہیں حج سے فارغ ہونے کے بعد اس کی خوشی میں وہ تمام تکالیف ایسی محسوس ہوتی ہیں گویا ایک ذرہ بھی حاجی پر نہیں گزرا اور اس نے بالکل سہولت اور آسانی و عافیت و آرام کے ساتھ حج ادا کیا یہ اسلام اور اس کے اس عظیم رکن مقدس کا خاص اور نمایاں معجزہ اور کرشمہ قدرت خداوندی ہے۔
- ہر ایک کی خدمت کی نیت کر کے جائیں اور کسی سے بھی اپنی خدمت کرانے یا کام آنے کی ذرہ برابر بھی امید نہ رکھیں حتیٰ کہ اولاد و بیوی سے بھی اور اپنا کام خود کریں کوئی دوسرا کر دے تو اس کا احسان سمجھیں۔





7. سفر حج و عمرہ میں آسانی اور سہولت کے لیے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں

2. ہر جگہ (ہوٹل، سفر، حریم، ایئرپورٹ وغیرہ، زیارات، منی، عرفات، وغیرہ) کے

انتظامی قواعد اور نظم و ضبط کی پابندی کریں۔

3. حج سے پہلے مقامات حج کی زیارت کریں، راستوں، امتیازی نشانات، نمبرات، محل

وقوع، طبی مراکز وغیرہ کی آگاہی حاصل کریں۔ تاکہ حج میں آسانی رہے۔





7. سفر حج و عمرہ میں آسانی اور سہولت کے لیے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں

4. صحت کا خیال رکھیں۔

لہذا مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر کا بہت زیادہ اہتمام کریں:

چھتری، پانی ساتھ رکھیں، سر ڈھانپیں:

- ایام حج میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ خصوصاً منی عرفات میں اکثر درجہ حرارت پچاس سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی کم ہوتا ہے اس لئے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں دھوپ میں بھی زیادہ کھڑے نہ ہوں، سورج کی دہکتی گرمی میں زیادہ دیر کھڑے رہنے سے لو لگ سکتی ہے جس سے جسم کی زیادہ تر نمکیات اور پانی نکل جاتے ہیں۔ اس سے کمزوری اور بے ہوشی ہو سکتی ہے۔





احتیاطی تدابیر

- اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو باہر نکلتے وقت خصوصاً حرم جاتے وقت چھتری کا استعمال ضرور کریں اگر احرام میں نہ ہوں تو سر بھی ڈھانپ کر رکھیں اور پانی پینے کی بوتل ہمیشہ اپنے پاس رکھیں خاص طور سے حج کے پانچ دنوں میں۔

اپنے آپ کو بلاوجہ نہ تھکائیں / عبادات میں اعتدال:

- بلا ضرورت گھوم پھر کر اپنے آپ کو نہ تھکائیں اور عبادات میں بھی اعتدال رکھیں اپنی طاقت ہمت سے زیادہ کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف نہ دیں حج کے مناسب ادا کرنے سے پہلے مناسب آرام کریں۔



احتیاطی تدابیر

دھکم پیل سے بچیں:

- ہجوم میں دھکم پیل سے گریز کریں جب بھی ہجوم میں پھنس جائیں تو اسی طرف چلیں جس طرف سب چل رہے ہو مخالف سمت میں ہر گز نہ چلیں۔

مخصوص بیماریوں کی علامات میں جلد از جلد ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور یہ احتیاطیں کریں:

- حج کے مقدس موقع پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور بنیادی طبی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں جیسے ٹائیفائیڈ (typhoid)، گردن توڑ بخار (meningitis fever) فلو (influenza) اور اسہال (diarrhea)۔
- ان بیماریوں کی علامات ہیں بخار، درد، تھکن۔ ان کے ساتھ اسہال اور پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے۔
- شدید سر میں درد اور قے بھی ان بیماریوں کا حصہ ہے۔ ان علامات کے ساتھ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔





احتیاطی تدابیر

مخصوص بیماریوں کی علامات میں جلد از جلد ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور یہ احتیاطیں کریں:

- سانس کے انفیکشن (نمونیا) (Respiratory Tract Infection) حج کے موقع پر کافی حجاج کرام کو ہوتے ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔
- چہرے پہ ماسک کا استعمال کریں۔
- کھانستے وقت منہ پہ ہاتھ رکھیں۔
- فاصلہ رکھ کے بات کریں۔
- زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں۔



احتیاطی تدابیر

- شدید ایمر جنسی کی صورت میں بلڈنگ میں موجود معاون یا چوکیدار کی مدد سے سعودی ہلال احمر کی ایمبولینس بلائے کیلئے **997** پر رابطہ کریں۔
- غیر ضروری ادویات اور ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر ادویات کے استعمال سے گریز کریں۔
- زیادہ ٹھنڈا زم زم اور ٹھنڈے مشروبات اور کچن یا واش روم سے نلکے والا پانی پینے سے احتراز کریں۔
- بہت زیادہ کھانے یا زیادہ مصالحہ دار کھانوں سے پرہیز کریں۔
- پیک شدہ اشیاء کے استعمال سے پہلے **expiry date** ضرور دیکھ لیں۔
- پھل دہی سبزیوں پانی اور جو سز کا استعمال زیادہ کریں۔



احتیاطی تدابیر

- اپنے کمرہ میں موجود فریج میں پانی کا اسٹاک ضرور رکھیں۔ کھانے کے اوقات کا خیال رکھیں، کھانوں میں زیادہ وقفہ نہ کریں۔
- سعودی عرب میں ٹریفک دائیں ہاتھ چلتی ہے۔ لہذا سڑک پار کرتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھیں۔





احتیاطی تدابیر

- نقدی اور قیمتی اشیاء کے گم ہونے اور جیب کٹنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے طواف اور دیگر بھیڑ کے مواقع میں۔ لہذا صرف ضرورت کی رقم اپنے پاس رکھیں پوری کی پوری رقم ہر وقت جیب میں یا بیلٹ میں نہ اٹھائے رکھیں، بلکہ فالتور رقم قیمتی اشیاء وغیرہ کسی محفوظ جگہ پر رکھیں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ پاکستان واپسی تک آپ کے پاس کم از کم 100 ریال موجود ہوں تاکہ کسی اشد ضرورت یا پرواز کی تاخیر کی صورت میں کھانا وغیرہ کھا سکیں۔
- چابیوں کے دو سیٹ مختلف مقامات پر محفوظ رکھیں
- حج کے موسم میں کوئی سعودی اہلکار عازمین حج کے کاغذات چیک نہیں کرتا اگر کوئی اس طرح کا مطالبہ کرے تو ہوشیار رہیں اور سوائے گلے کے کارڈ کے کوئی اور کاغذات نہ نکالیں۔



احتیاطی تدابیر

- حدود حرم بلکہ سعودی عرب میں اگر کوئی قیمتی چیز گری پڑی نظر آئے تو کسی اہلکار کو بلا کر نشانہ ہی کریں۔ خود ہر گز نہ اٹھائیں، سعودیہ میں اس عمل کو چوری کہا جاتا ہے۔
- عازمین حج خصوصاً خواتین جب باہر جائیں، کم از کم دو افراد جائیں، اکیلے نہ جائیں خاص طور سے رات میں۔
- ٹیکسی وغیرہ میں بیٹھتے ہوئے مرد پہلے بیٹھیں پھر خواتین اور اترتے وقت خواتین پہلے اتریں پھر مرد۔
- کسی حادثہ کی صورت میں افراد تفری پیدا نہ کریں اور زخمی یا میت کو خود نہ اٹھائیں بلکہ قریبی سیکٹر آفس سے مدد طلب کریں اور پولیس یا پاکستان ہاؤس میں اطلاع کر دیں۔



سفر حج و عمرہ میں آسانی اور سہولت کے لیے ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں

5. ہر موقع پر ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے آسانیاں، حفاظتیں اور عافیت کی بھیک مانگتے رہیں۔





نمبر نوٹ فرمائیں

مسائل معلوم کرنے کے لیے یا پریز نٹیشن لینے کے لیے یا دیگر معلومات کے لیے درج ذیل نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

0331-2607204

0336-2158882

پریز نٹیشن almuneer.pk ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے۔

